

## برامپٹن میں 2019 کا چھٹیوں کا سیزن

برامپٹن، آن (16 دسمبر 2019) – آنے والے چھٹیوں کے سیزن کے دوران سٹی آف برامپٹن کے کئی دفاتر بشمول سٹی ہال کو بروز منگل، مورخہ 24 دسمبر 2019 کو دن 12 بجے سے بروز جمعرات، مورخہ 2 جنوری 2020 کو صبح 8:30 بجے تک عوام کے لیے بند کر دیا جائے گا۔

شہری اس وقت کے دوران خود آ کر شادی کے لائسنس کے لیے درخواست دینے، غلط پارکنگ پر جرمانہ بھرنے اور پرمٹس کے لیے درخواست نہیں دے سکیں گے۔ کئی خدمات معمول کے مطابق اپنا کام کرنا جاری رکھیں گی، بشمول فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز اور سٹی آف برامپٹن بائی لاء انفورسمنٹ۔

چھٹیوں کے سیزن کے دوران کوڑا اٹھانے کے حوالے سے کوئی چھوٹ نہیں ہو گی۔ رہائشی کوڑا اٹھانے کا اپنا کیلنڈر بھی دیکھ سکتے ہیں یا مزید جاننے کے لیے [www.peelregion.ca/waste](http://www.peelregion.ca/waste) ملاحظہ کر سکتے ہیں۔

رہائشیوں کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ اگر ان کے پاس پارکنگ کی اجازت موجود ہو، تو برف باری کی صورت میں یہ غیر مؤثر ہو جائے گی۔ مزید معلومات کے لیے [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر جائیں۔

رہائشی کسی بھی سوال کے لیے 311 یا 905.874.2000 پر کال (برامپٹن کے باہر سے) یا [311@brampton.ca](mailto:311@brampton.ca) پر ای میل کر سکتے ہیں۔ سٹی آف برامپٹن اور ریجن آف پیل کے کسی بھی معاملے بشمول پارکنگ، کوڑا کرکٹ اٹھانے، تفریحی پروگراموں اور دیگر کاموں کے لیے ہم 24/7 دستیاب ہوں گے۔

### برامپٹن ٹرانزٹ

برامپٹن ٹرانزٹ چھٹیوں کے سیزن کے دوران درج ذیل شیڈول کے مطابق چلے گی:

- منگل، 24 دسمبر 2019: ویک ڈے کی سروس میں کمی
- بدھ، 25 دسمبر 2019: اتوار/چھٹی کے دن کی سروس
- جمعرات، 26 دسمبر 2019: سیچرڈے سروس
- جمعہ، 27 دسمبر 2019: ویک ڈے کی سروس میں کمی
- ہفتہ، 28 دسمبر 2019: سیچرڈے سروس
- اتوار، 29 دسمبر 2019: اتوار/چھٹی کے دن کی سروس
- پیر، 30 دسمبر 2019: ویک ڈے کی سروس میں کمی
- منگل، 31 دسمبر 2019: ویک ڈے کی سروس میں کمی
- چند روٹس پر توسیع شدہ سروس اور تمام روٹس پر مفت نیو اینٹرز ایوو کی سروس شام 7 بجے کے بعد شروع کی جائے گی۔
- بدھ، 1 جنوری 2020: ویک ڈے کی سروس میں کمی
- جمعرات، 2 جنوری 2020: ویک ڈے کی سروس میں کمی
- جمعہ، 3 جنوری 2020: ویک ڈے کی سروس میں کمی
- ہفتہ، 4 جنوری 2020: سیچرڈے سروس
- اتوار، 5 جنوری 2020: اتوار/چھٹی کے دن کی سروس

یاد رکھیں:

- 199 UTM ایکسپریس اور اسکول روٹ (200 سیریز والے) کا دوبارہ آغاز 6 جنوری سے ہو گا
- روٹ اور شیڈول کی مکمل معلومات کے لیے 905.874.2999 پر کال کریں یا [www.bramptontransit.com](http://www.bramptontransit.com) ملاحظہ کریں۔
- اگلی بس کے حقیقی اوقات کی معلومات کے لیے اپنے اسمارٹ فون یا دیگر موبائل ڈیوائس پر [nextride.brampton.ca](http://nextride.brampton.ca) ملاحظہ کریں سفر کی منصوبہ بندی کے مزید ٹولز کے لیے [www.triplinx.ca](http://www.triplinx.ca) یا گوگل میپس ملاحظہ کریں۔

### برامپٹن لائبریری

لائبریریوں کی تمام شاخیں (چنگواکوسی برانچ، سائٹل کلاک برانچ، فور کارنرز برانچ، گور میڈوز برانچ، ماؤنٹ پلیزینٹ ویلج برانچ اور ساؤتھ فلیچرز برانچ اور سپرنگ ڈیل برانچ) درج ذیل اوقات میں بند رہیں گی:

- منگل، 24 دسمبر 2019
- بدھ، 25 دسمبر 2019
- جمعرات، 26 دسمبر 2019
- منگل، 31 دسمبر 2019
- بدھ، 1 جنوری 2020

مزید معلومات کے لیے (905) 793-4636 پر یا 311 پر کال کریں یا [www.bramptonlibrary.ca](http://www.bramptonlibrary.ca) ملاحظہ کریں۔

### برامپٹن ریکرییشن

اسکیٹنگ کے بیرونی رنکس

اسکیٹنگ کے بیرونی رنکس کا افتتاح موسم پر منحصر ہے۔ برف بننے اور قائم رہنے کے لیے درجہ حرارت کو زیادہ اوقات کے لیے نقطہ انجماد سے نیچے رہنا چاہیے۔ گیج پارک، چنگواکوسی پارک اور ماؤنٹ پلیزینٹ کے اسکیٹنگ کے بیرونی رنکس مورخہ 16 دسمبر سے کھلے ہیں۔ گور میڈوز آؤٹ ڈور کورڈ اسکیٹنگ رنک 23 دسمبر کے ہفتے کے دوران کھلنے کے لیے شیڈول کیے گئے ہیں۔

سٹی موجودہ طور پر تین مفت بیرونی اسکیٹنگ رنکس کو چلا رہا ہے: چنگواکوسی پارک سکیٹ ٹریل، ماؤنٹ پلیزینٹ آؤٹ ڈور اسکیٹنگ رنک اور گیج پارک آؤٹ ڈور اسکیٹنگ ٹریل۔ گور میڈوز آؤٹ ڈور کورڈ اسکیٹنگ رنک پر فیسوں کا اطلاق ہو گا۔

مزید معلومات [یہاں](#) دستیاب ہے۔

اسکیٹنگ کے اندرونی رنک سال بھر کھلے رہتے ہیں۔ ڈراپ ان شیڈولوں اور لرن ٹو سکیٹ کی نشستیں کے بارے میں معلومات [www.brampton.ca/recreation](http://www.brampton.ca/recreation) پر دستیاب ہے۔

ماؤنٹ چنگواکوسی: اسکیٹنگ، سنو بورڈنگ اور ٹیوبنگ

اپنا سامان باندھیں اور 27 دسمبر سے شروع کرتے ہوئے (اگر موسم اجازت دے) برامپٹن کی اپنی اسکی، سنو بورڈ اور ٹیوبنگ ہل کی ڈھلوانوں پر چلنے آجائیں۔ ایک اسکی یا اسنو بورڈ کی نشست کے ذریعے اپنی مہارتوں کو بہتر بنائیں اور کوزی چیلٹ میں گرم ہوں۔ سکی چیلٹ میں داخلے کی جگہ سنٹرل پارک ڈرائیو اور برامیلا روڈ کے کونے میں ہے۔

مزید معلومات [یہاں](#) دستیاب ہے۔

پارک میں کرسمس

بروز ہفتہ، 21 دسمبر کو، خاندان چنگواکوسی پارک میں چھٹیوں کی خوشی سے بھرے دن سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ سرگرمیوں میں سائنٹا کے ساتھ ناشتہ، جنر بریڈ سے گھر بنانا اور کُکی کو سجانا شامل ہیں۔ منتخب شدہ سرگرمیوں کے لیے رجسٹریشن درکار ہو گی۔

مزید معلومات [یہاں](#) دستیاب ہے۔

### برامپٹن اینیمل سروسز

چھٹیوں کے اس سیزن کے دوران ضرورت مند جانوروں کو سہارہ دینے کو ذہن میں رکھیں! شیڈلز میں موجود پالتو جانوروں کو کھلونے یا رسدات فراہم کرنے میں دلچسپی رکھنے والے افراد برامپٹن اینیمل سروسز کی ایمازون وش لسٹ [یہاں](#) ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی شخص نقد عطیات دے کر بھی ہیلپنگ آرفنڈ پیٹس ان ایمرجنسیز (HOPE) فنڈ کی معاونت کر سکتا ہے جو کہ بیمار اور زخمی جانوروں کو ایمرجنسی طبی نگہداشت دیتی ہے تاکہ ان جانوروں کو پیار کرنے والے گھروں میں جگہ مل سکے۔ آپ کی جانب سے HOPE کو عطیہ کیا

جانے والا ہر پیسہ براہ راست جانوروں کی نگہداشت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ [یہاں](#) پر مزید جانیں اور آن لائن عطیہ کریں۔

### برامپٹن میں نیو اینرز ایوو 2020

ہر روز منگل، مورخہ 31 دسمبر 2019 کو گارڈن اسکوائر میں برامپٹن کی نئی سال کی خوشیوں بھری تقریبات میں ہمارے ساتھ شامل ہوں! ڈی جے فزا اور KISS 92.5 کے میزبان شیم (Shem) مل کر اس تقریب کا آغاز کریں گے۔ جو لوگ نئے سال کا جشن جلدی منانا چاہتے ہوں، ان کے لیے آتش بازیوں کا مظاہرہ رات 9 بجے ہو گا۔ ونگ نائیٹ جو ٹورانٹو میں پپ ہاپ میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور R&B کا کور بیٹڈ جو 90 کی دہائی کی کلاسیکی موسیقی میں مہارت رکھتے ہیں، کے ساتھ براہ راست تفریح رات 9:15 بجے تک جاری رہے گی۔ جُونو (JUNO) ایوارڈ جیتنے والا بیٹڈ اور برامپٹن نیو اینرز ایوو 2020 کے ہیڈ لائنر میجک! رات 11 بجے کے فوراً بعد اسٹیج سنبھال لیں گے اور آدھی رات کے وقت الٹی گنتی اور آتش بازی کے دوسرے مظاہرے تک شائقین کا لہو گرماتے رہیں گے۔

سٹی ہال میں خاندان دوست تفریح شام 6:30 سے رات 9 بجے تک پیش کی جائے گی، جس میں سٹی ہال میں بچوں کی ایک ڈانس پارٹی، میجک شو، دستکاریاں اور تصاویر بنانے کے مواقع ہوں گے۔

مزید معلومات [یہاں](#) دستیاب ہے۔

### آتش بازیوں کے مظاہرے

نئے سال کی شام، چھٹیوں کے ان چار منظور شدہ دنوں میں شامل ہے جن کے دوران پرائیویٹ پراپرٹی پر بغیر کسی پرمٹ کے چھوٹی حد والی آتش بازیوں چلائی جا سکتی ہیں۔ چھوٹی حد والی آتش بازیوں وہ ہوتی ہیں، جنہیں جب چلایا جائے، تو وہ تین میٹر (10 فٹ) سے کم دوری تک جاتی ہیں (مثلاً فائونٹینز، ویلرز، گراؤنڈ سپنرز، سپارکلرز)۔ دیگر تمام راکٹ کی قسم کی آتش بازیوں برامپٹن میں بین شدہ ہیں۔ سٹی رہائشیوں کو یاد دہانی کرواتا ہے کہ گلیوں، سائیڈ واکس، سٹی پارکس کے اندر یا میونسپل یا اسکول کی املاک پر آتش بازیوں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مزید معلومات کے لیے [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ کریں۔

اپنی املاک پر چھوٹی حد والی آتش بازیوں کے استعمال میں، آپ کو ان حفاظتی تدابیر پر لازمی عمل کرنا چاہیے:

- آپ کے پاس آگ کو بجھانے کے لیے پانی کا کوئی برتن یا چلتے ہوئے پانی کی کوئی لائن لازمی طور پر موجود ہونی چاہیے
- کبھی بھی اپنے ہاتھ میں سپارکلر کے علاوہ دیگر کوئی آتش بازی ہر گز نہ چلائیں یا پکڑیں نہیں
- سپارکلرز کو استعمال کرنے کے بعد، پھینکنے سے پہلے پوری طرح ٹھنڈے ہونے کے لیے پانی کے کسی برتن میں ڈال دیں
- آتش بازیوں کو پھینکنے سے پہلے انہیں پوری طرح ٹھنڈا ہونے دیں

### میئر کی نیو اینرز ایوو لیوی

ہر روز جمعرات مورخہ 2 جنوری 2020 کو سٹی ہال کے ایٹریئم میں شام 4 سے 7 بجے تک اس جشن کے استقبال کی دیرینہ روایت کا حصہ بنیں! شرکاء کو میئر اور کونسل کے ممبران سے ملاقات، میئر کے ساتھ تصاویر بنوانے اور ہلکی ریفریشمنٹ سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملے گا۔

مزید معلومات [یہاں](#) دستیاب ہے۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)

